

غیر قانونی نکاح کر کے خاوند کی دوسری بیویوں کو شادی
کا بتا دیا تو خاوند نے طلاق دے دی اور اب وہ حمل گرانے
کا مطالبہ کرتا ہے!

تزوجها بعقد غير موثق بمحكمة وأفشت سرّ زواجها لنسائه

فطلقها وطلب إجهاض الجنين!

[أردو - اردو - urdu]

شيخ محمد صالح المنجد

ترجمہ: اسلام سوال و جواب ویب سائٹ

تنسيق: اسلام ہاؤس ویب سائٹ

ترجمة: موقع الإسلام سؤال وجواب

تنسيق: موقع islamhouse

2013 - 1434

IslamHouse.com



غیر قانونی نکاح کر کے خاوند کی دوسری بیویوں کو شادی کا بتا دیا تو خاوند نے طلاق دے دی اور اب وہ حمل گرانے کا مطالبہ کرتا ہے!

میں ایک نیک و صالح اور دین کا التزام کرنے والے شخص سے شادی شدہ ہوں، اس نے اپنے خاندان والوں سے خفیہ طور پر میرے ساتھ شادی کی کیونکہ وہ پہلے بھی شادی شدہ تھا، اس کی رغبت کا احترام کرتے ہوئے میں نے بہت سارے حقوق ختم کر دیے تا کہ یہ راز قائم رہے، اس طرح میں اس سے رابطہ کرنے میں مشکل سے دوچار رہنے لگی، میری شادی کو ایک برس ہو چکا ہے لیکن اس عرصے میں اسے میں نے صرف چوبیس دن دیکھا ہے۔

اور بالآخر میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس کی بیویوں اور خاندان والوں کو بتا دوں ہو سکتا ہے وہ میرے ساتھ نرمی و رحمہلی کا سلوک کرتے ہوئے میرا تعاون کریں، لیکن اچانک مشکل اور بڑھ گئی کیونکہ میں چہ ماہ کی حاملہ ہوں اس حالت میں خاوند نے مجھے موبائل میسج کر کے طلاق دے دی۔

مجھے حق سننے والا کوئی نہیں ملا لیکن اس سے بھی بڑھ کر ظلم یہ کہ میرا خاوند حمل گرانے کا مطالبہ کر رہا ہے! اس سلسلہ میں شریعت کیا کہتی ہے؟

میں تو ضائع اور تباہ ہو گئی ہوں کیونکہ میرا نکاح سرکاری طور پر رجسٹر نہیں ہوا، بلکہ صرف شرعی طور پر والد صاحب اور دو گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہوا تھا، اب میں تو یہی کہتی ہوں کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے، میں نے اس کے خاندان والوں کو بتا کر کوئی برائی نہیں کی، کیونکہ میرا خیال تھا کہ وہ سمجھتے ہیں، لیکن معاملہ اس کے برعکس اور الٹ ہو گیا، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟



الحمد لله:

اول:

آپ کے والد نے سرکاری طور پر نکاح رجسٹر نہ کرا کر بہت بڑی غلطی کی ہے کہ اس نے عرفی نکاح کر دیا، ہم کئی بار بیان کر چکے ہیں کہ یہ عرفی نکاح اگرچہ نظریاتی ناحیہ سے شرعی ہے، لیکن نکاح سرکاری طور پر رجسٹر نہ کرانے میں بہت سارے نقصانات اور عظیم خرابیاں پائی جاتی ہیں جن میں سے اہم یہ ہیں:

رسمی طور پر کاغذات میں بچے کی نسبت والد کی طرف کرنا مشکل ہونا ہے، اور اسی طرح عورت کے مالی حقوق بھی محفوظ نہیں رہتے مثلاً مہر اور وراثت وغیرہ یہ ایسے امور ہیں جو کسی عقلمند کے لیے مخفی نہیں۔

مزید آپ سوال نمبر (۴۵۵۱۳) اور (۴۵۶۶۳) کے جوابات کا مطالعہ کریں۔

دوم:

طلاق دینے والا جس سے بھی طلاق کی تعبیر کر سکتا ہو اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے چاہے وہ کلام ہو یا لکھ کر یا پھر اگر وہ گونگا ہے تو اشارہ کے ساتھ، اور خاوند کے موبائل سے کیا گیا طلاق کا میسج جس میں بیوی کو طلاق دی گئی ہو اسے طلاق واقع ہو جاتی ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ یہ ثابت ہو جائے کہ میسج کرنے والا خود خاوند ہے، اور اس نے بغیر کسی جبر و اکراہ کے یہ میسج کیا ہو۔

مزید آپ سوال نمبر (۷۰۶۶۰) اور (۳۶۷۶۱) اور (۲۰۶۶۰) کے جوابات کا بھی مطالعہ کریں۔

سوم:

اکثر اور عام لوگ یہ خیال اور اعتقاد رکھتے ہیں کہ حاملہ عورت کو طلاق واقع نہیں ہوتی، لیکن ان کا یہ گمان و خیال غلط اور باطل ہے، بلکہ حاملہ عورت کی طلاق شرعی ہے اور یہ سنت کے مطابق ہے۔



مزید دلائل دیکھنے کے لیے اور علماء کرام کے اس کے متعلق اقوال کا مطالعہ کرنے کے لیے سوال نمبر (۱۲۲۸۷) کے جواب کا مطالعہ کریں۔

اس بنا پر آپ کا خاوند اقرار کر چکا ہے کہ اس نے ہی یہ میسج کیا تھا اور اس میں جو کچھ تھا اسے اس کا علم ہے اور اس کے معانی کا مقصد یہی تھا تو آپ کو طلاق ہو چکی ہے اور یہ ایک طلاق شمار ہو گی۔

اور اب آپ طلاق کی عدت میں ہیں حتیٰ کہ حمل وضع ہو جائے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

(اور حمل والیوں کی عدت وضع حمل ہے) (الطلاق (۴))۔

اور یہ عدت مطلقہ عورت اور جس کا خاوند فوت ہو جائے دونوں کو شامل ہو گی۔

اس طلاق کے نتیجہ میں یہ مرتب ہوتا ہے کہ: آپ خاوند کے گھر میں رہیں اور اپنے اختیار سے وہاں سے مت نکلیں، اور اسی طرح خاوند کے لیے بھی حلال نہیں کہ وہ آپ کو اس گھر سے نکالے؛ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

(اے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کہو کہ) جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہو تو ان کی عدت (کے دنوں کے آغاز) میں انہیں طلاق دو، اور عدت کا حساب رکھو، اور اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرتے رہو، نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو، اور نہ ہی وہ (خود) نکلیں ہاں یہ اور بات ہے وہ کھلی برائی کر بیٹھیں، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، جو شخص اللہ کی حدوں سے آگے بڑھ جائے اس نے یقیناً اپنے اوپر ظلم کیا، تم نہیں جانتے کہ شائد اس کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی نئی بات پیدا کر دے (الطلاق (۱))۔



اور دوران حمل آپ کا خاوند آپ کو اپنی عصمت میں واپس لینا کا زیادہ حقدار ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں بیان ہوا ہے:

(اور ان کے خاوند اس میں انہیں واپس لینے کے زیادہ حقدار ہیں جب وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں) البقرة (۲۲۸) .

چہارم:

رہا آپ کے خاوند کا آپ سے اسقاط حمل کا مطالبہ کرنا اور آپ کا حمل چہ ماہ کا ہو چکا ہے تو یہ مطالبہ برائی ہے اور اسے اس کا کوئی حق حاصل نہیں، اور آپ کے لیے اس کے ارادہ اور مطالبہ پر عمل کرتے ہوئے اپنا حمل ساقط کروانا حلال نہیں، کیونکہ یہ ایک جان کو ناحق اور بے گناہ قتل کرنا ہے۔

ایسا کرنے میں گناہ اور دیت ہے جو کہ دین جنین کہلاتی ہے اور وہ ایک غلام یا لونڈی کی قیمت کی ادائیگی ہے جو یہ علماء مقرر کریں گے جو بچے کی ماں کی دیت کا عشر ہو گا، اور کفارہ بھی ہے جو دو ماہ کے مسلسل روزے رکھنا ہوں گے، اور آپ اور آپ کا خاوند دونوں ہی دیت اور گناہ میں شریک ہیں، اور تم دونوں پر دو دو ماہ کے مسلسل روزے رکھنا ہوں گے، جیسا کہ سوال نمبر (۴۰۲۶۹) کے جواب میں بیان کیا جا چکا ہے آپ اس کا مطالعہ ضرور کریں۔

چنانچہ آپ اسقاط حمل سے گریز کریں، اور کوئی ایسا فعل سرانجام دینے میں اللہ سے ڈریں جو آپ کے لیے شرعاً حلال نہیں ہے، اور آپ خاوند کو بھی اللہ کا خوف دلانیں اور یہ علم میں رکھیں کہ اس مسئلہ میں آپ کے لیے خاوند کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے؛ کیونکہ وہ جو چاہتا ہے وہ ایک معصیت و نافرمانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی معصیت و نافرمانی میں کسی کی بھی اطاعت نہیں ہو سکتی۔

آپ اپنے والد یا علق و دانش و حکمت رکھنے والے جس شخص کو پسند کرتی ہوں اپنے اور خاوند کے مابین واسطہ بنائیں تا کہ وہ آپ کو وقت گزرنے سے قبل اپنی عصمت میں واپس لے لے، اور جب ایسا ہو جائے تو



آپ (اور آپ کا والد بھی) سرکاری طور پر نکاح رجسٹر کرانے کی کوشش کریں چاہے اس میں مشقت اٹھانی پڑے اور مشکل بھی پیش آتی ہو۔

اور اگر وہ انکار کرے اور آپ کو طلاق دینے پر ہی مصر ہو تو پھر آپ اس آزمائش پر صبر کریں اور اپنے معاملہ کو اللہ کے سپرد کر دیں، اور ناامید مت ہوں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس بچے میں خیر رکھی ہو، اور آپ کو اس خاوند سے بھی کوئی بہتر خاوند مل جائے۔

اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

(اور اگر وہ دونوں علیحدہ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی وسعت سے غنی کر دیگا، اور اللہ بڑی وسعت والا اور حکمت والا ہے) النساء (۱۳۰)۔

واللہ اعلم .